

(۵) عمل ام داؤد کی بھی اس دن کا خاص عمل ہے جو حاجت برآ ری، مصیبت کی دوری اور ظالموں کے ظلم سے بچاو کیلئے بہت مؤثر ہے، شیخ نے مصباح میں اس عمل کی کیفیت یوں لکھی ہے کہ عمل ام داؤد کرنے کیلئے ۱۳، ۱۴، ۱۵ ارجمند کوروزہ رکھے اور ۱۵ ارجمند کو زوال کے وقت غسل کرے زوال کے فوراً بعد نماز ظہر و عصر بجالائے کہ رکوع و تجدود میں خوف اور عاجزی کا اظہار کرے اس وقت وہ خلوت کی جگہ پر ہو، جہاں وہ کسی کام میں مشغول نہ ہو اور کوئی شخص اس سے بات بھی نہ کرے، جب نماز سے فارغ ہو جائے تو قبلہ رو ہو کر اس طرح عمل کرے کہ سومرتبا سورہ الحمد، سومرتبا سورا خلاص اور دس مرتبہ آیت الکرسی، اسکے بعد یہ سورتیں پڑھے: سورہ انعام، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ لقمان، سورہ یسین، سورہ صافات، سورہ حم سجده، سورہ حمسق، سورہ فتح، سورہ حم دخان، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ نون، سورہ انشقاق اور اسکے بعد قرآن کی آخری سورہ تک مسلسل پڑھے جب فارغ ہو جائے تو قبلہ رخ ہو کر یہ دعا پڑھے:

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ ذُو الْجَلَالِ وَالْأَكْرَامِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، الْحَلِيمُ
سچا ہے خدا نے بزرگتر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی جو زندہ، نگہدار، صاحب جلالت و بزرگی، بڑے رحم والا، مہربان، بردبار اور کرم کرنے والا ہے
الْكَرِيمُ، الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، الْبَصِيرُ الْخَبِيرُ، شَهِيدُ اللَّهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ
جس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے اور جاننے والا ہے پینا وخبردار ہے اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں

إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهٌ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَبَلَغَتْ رُسُلُهُ
 اور فرشتوں اور صاحبان علم نے بھی گواہی دی جو عدل پر قائم ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو غالب صاحب حکمت ہے اور اس کے محترم
 الکرام وَأَنَا عَلَى ذلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، وَلَكَ الْمَجْدُ، وَلَكَ الْعِزُّ، وَ
 رسول نے یہی پیغام دیا اور میں بھی اس کے گواہوں میں سے ہوں اے معبود! تیرے لئے ہی جمد ہے تیرے لئے ہی عزت ہے
 لَكَ الْفَخْرُ، وَلَكَ الْقُهْرُ وَلَكَ النِّعْمَةُ، وَلَكَ الْعَظَمَةُ، وَلَكَ الرَّحْمَةُ، وَلَكَ الْمَهَابَةُ،
 تیرے لئے ہی خیر ہے تیرے لئے ہی غلبہ ہے تیرے ہی لئے نعمت ہے تیرے لئے ہی برائی ہے تیرے لئے ہی رحمت ہے تو ہی صاحب بیت ہے تو ہی
 وَلَكَ السُّلْطَانُ وَلَكَ الْبَهَاءُ وَلَكَ الْإِمْتَانُ وَلَكَ التَّسْبِيْحُ وَلَكَ التَّقْدِيسُ وَلَكَ التَّهْلِيلُ
 سلطنت والا ہے تو ہی خوبی والا ہے تو ہی صاحب احسان ہے تیرے ہی لئے شفیع ہے تیرے ہی لئے پاکیزگی ہے تیرے ہی لئے
 وَلَكَ التَّكْبِيرُ، وَلَكَ مَا يُرِي، وَلَكَ مَا فَوْقَ السَّمَاوَاتِ الْعُلَى، وَلَكَ
 ذکر ہے تیرے ہی لئے برائی ہے تیرے ہی لئے ہے ہر دکھائی دینے اور دکھائی نہ دینے والی چیز تیرے ہی لئے ہے جو بلند آسمانوں
 مَاتَحَتَ الشَّرِى، وَلَكَ الْأَرَضُونَ السُّفْلُى، وَلَكَ الْأُخْرَةُ وَالْأُولَى، وَلَكَ مَا تَرُضِي بِهِ مِنَ
 سے اوپر ہے تیرے ہی لئے ہے ہر چیز جو زیر زمین ہے تیرے ہی لئے ہیں چلی زمینیں تیرے ہی لئے ہے آغاز اور انجم تیرے ہی
 الشَّاءِ وَالْحَمْدِ وَالشُّكْرِ وَالنَّعْمَاءِ . اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَرْئِيلَ أَمِينِكَ عَلَى وَحْيِكَ، وَالْقَوْيِ عَلَى
 لئے ہے تیرے پسند کی ہوئی تعریف، حمد، شکر اور نعمات اے معبود! جبریل پر رحمت فرمा جو تیری وہی کا امین ہے تیرا حکم ماننے میں
 اُمْرِكَ، وَالْمُطَاعِ فِي سَمَوَاتِكَ وَمَحَالِ كَرَامَاتِكَ، الْمُتَحَمِّل لِكَلْمَاتِكَ، النَّاصِر لِأَنْبِيَائِكَ،
 تو ہی اور تیرے آسمانوں میں قابل اطاعت ہے تیرے نوازوں کا مرکز اور تیرے کلمات کا حامل ہے تیرے انبیاء کا مددگار ہے اور تیرے دشمنوں
 الْمُدَمِّر لِأَعْدَائِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مِيكَائِيلَ مَلَكِ رَحْمَتِكَ وَالْمَخْلُوقِ لِرَأْفِيْكَ وَالْمُسْتَغْفِرِ
 کوہلاک کرنے والا ہے اے معبود! میکائیل پر رحمت فرماجو تیری رحمت کافرشتہ ہے اس کا وجود تیری مہربانی کا مظہر ہے وہ تیرے اطاعت گزاروں کا مددگار
 الْمُعِينِ لِأَهْل طَاعَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى إِسْرَافِيلَ حَامِلِ عَرْشِكَ وَصَاحِبِ الصُّورِ الْمُنْتَظَرِ
 اور ان کیلئے طالب بکشش ہے اے معبود! رحمت فرماسرافیل پر جو تیرے عرش کو اٹھانے والا اور صور پھونکنے والا کہ تیرے انتظار میں ہیوہ تیرے خوف سے
 لَامِرِكَ الْوَجِيلِ الْمُشْفِقِ مِنْ خِيفَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى حَمَلَةِ الْعَرْشِ الطَّاهِرِينَ وَعَلَى السَّفَرَةِ
 خائف و ہراساں ہے اے معبود ! حاملان عرش پر رحمت فرمा جو پاک و پاکیزہ ہیں اور اپنے سفیروں
 الْكِرَامِ الْبَرَّةِ الطَّيِّبِينَ، وَعَلَى مَلَائِكَتِكَ الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ، وَعَلَى مَلَائِكَةِ الْجِنَانِ، وَخَزَنَةِ
 پر رحمت فرماء جو عزت دار نیک اور پاکیزہ ہیں اور اپنے فرشتوں پر رحمت فرماء جو عزت دار کاتب ہیں اور جنت کے فرشتوں پر

النِّيَارَانِ، وَمَلِكِ الْمُوْتِ وَالْأَعْوَانِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْأَكْرَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَبِينَا آدَمَ بَدِيعَ جَهَنَّمَ كَمَا نَهَاهُنَّ فَرِشْتَوْنَ پَرْ اور فرشته موت اور اس کے مد گاروں پر رحمت فرمائے صاحب جلالت و عزت اے معبود! ہمارے باپ فِطْرَتَكَ الَّذِي كَرَمْتَهُ بِسُجُودٍ مَلَائِكَتِكَ، وَأَبْحَثْتَهُ جَنَّتَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَمْنَا حَوَاءَ آدم پر رحمت نازل فرمائے تیری مخلوق میں نقش اول ہیں جنکو تو نے فرشتوں سے سجدہ کر کے عزت دی اور اپنی جنت ان کیلئے کھول دی الْمُطَهَّرَةِ مِنَ الرِّجْسِ، الْمُصَفَّاةِ مِنَ الدَّنَسِ، الْمُفَضَّلَةِ مِنَ الْأَنْسِ الْمُتَرَدَّدَةِ بَيْنَ مَحَالِ الْقُدُسِ اے معبود! ہماری ماں حوا پر رحمت فرمائے جو آلاش سے پاک اور ہر میل کچل سے صاف و پاکیزہ ہیں وہ انسانوں میں سے الَّهُمَّ صَلِّ عَلَى هَابِيلَ وَشَيْثَ وَإِدْرِيسَ وَنُوحَ وَهُودَ وَصَالِحَ وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ بلند تر اور پاکیزگی کے محلاں میں چلتی پھرتی ہیں اے معبود! ہابیل، شیث، ادريس اور نوح، ہود، صالح، ابراهیم و اسماعیل اور اسحاق، وَيَعْقُوبَ وَيُوسُفَ وَالْأَسْبَاطَ وَلُوطَ وَشَعِيبَ وَأَيُوبَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَيُوشعَ وَمِيشَا وَالْخَضْرِ یعقوب اور یوسف پر رحمت فرمائے اور ان کے اسپاٹ اولاد پر اور لوط، شعیب، ایوب، موسیٰ و ہارون پر رحمت فرمائے یوشع، میشآ و خضر وَذِي الْقَرْنَيْنِ وَيُونُسَ وَإِلْيَاسَ وَالْيَسَعَ وَذِي الْكِفْلِ وَطَالُوتَ وَدَاؤَدَ وَسُلَيْمانَ وَزَكَرِيَاً وَشَعِيَا اور ذوالقرینین پر اور یونس، الیاس، یسع، ذوالکفل، طالوت اور داؤد و سليمان پر رحمت فرمائے وَيَحْيَى وَتُورَّخَ وَمَتَّى وَإِرْمِياً وَحَيْقُوقَ وَدَانِيَاً وَغُزَّرِيًّا وَعِيسَى وَشَمْعُونَ وَجَرْجِيسَ وَالْحَوَارِيِّينَ اور ذکریا، شعیا، میخی، تورخ، متی، ارمیا اور حیقوق پر رحمت فرمائے اور دانیال، عزیز، عیلی، وَالْأَتْبَاعِ وَخَالِدٍ وَحَنْظَلَةَ وَلُقْمَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّداً وَآلَ شمعون اور جرجیس نیز ان کے حواریوں اور پیر و کاروں پر رحمت فرمائے اور خالد، حنظله اور لقمان پر رحمت فرمائے معبود! محمد و مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ آل محمد پر درود بخشن اور رحمت فرمائے اور محمد و آل محمد پر برکت نازل فرمائے جیسا کہ تو إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْأُوْصِيَاءِ وَالسُّعَادِاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَأَئِمَّةِ الْهُدَى نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود بخیجا، رحمت کی اور برکت نازل کی بے شک تعریف والا اور شان والا ہے اے معبود! وصیوں، نیک بخنوں، شہیدوں الَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْأَبْدَالِ وَالْأَوْتَادِ وَالسُّيَّاحِ وَالْعَبَادِ وَالْمُخْلِصِينَ وَالزُّهَادِ وَأَهْلِ الْجِدْ وَالْاجْتِهَادِ اور ہدایت والے ائمہ پر رحمت فرمائے معبود! رحمت فرمائیوں اور قلندروں پر اور رحمت فرمائیوں، عابدوں، مخلصوں، زاہدوں اور کوشش و اجتہاد کرنے وَاحْصُصْ مُحَمَّداً وَأَهْلَ بَيْتِهِ بِأَفْضَلِ صَلَواتِكَ وَأَجْزَلِ كَرَاماتِكَ، وَبَلَّغْ رُوْحَهُ وَجَسَدَهُ مِنْیٍ والوں پر اور حضرت محمد اور ان کے اہلیت کو اپنی بہترین کے ساتھ منقص فرمائیوں اور عظیم مہربانیوں سے نواز اور میری طرف سے آنحضرت کے جسم و روح

تَحِيَّةً وَسَلَامًا وَزُدْهُ فَضْلًا وَشَرَفًا وَكَرَمًا حَتَّى تُبَلِّغَهُ أَعْلَى دَرَجَاتِ أَهْلِ الشَّرَفِ مِنَ النَّبِيِّينَ
 كَوْ سَلَامٌ اُور آدَابٍ پَخْنَجَا اُور اَنْبِيَاءِ فَضْلٍ وَشَرَفٍ اُور بَرَگِيٍّ مِنْ بَرَّهَا حَتَّى كَهْ تُو انَّ كَوْ اَنْبِيَاءِ مَرْسَلِيَنَّ مِنْ سَعَيْتُو اُور
 وَالْمُرْسَلِيَنَّ وَالْأَفَاضِلِ الْمُقَرَّبِيَنَّ، اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى مَنْ سَمَيْتُ وَمَنْ لَمْ أُسَمِّ مِنْ مَلَائِكَتِكَ وَ
 اپنے بزرگ تر مقربوں کے بلند درجات پر پہنچا دے اے معبدو ! ان پر رحمت فرم جن کے نام میں نے لیئے اور جن کے
 اُنْبِيَاءِکَ وَرُسْلِکَ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ، وَأَوْصِلْ صَلَواتِي إِلَيْهِمْ وَإِلَى أَرْوَاحِهِمْ وَاجْعَلْهُمْ إِخْوَانِي
 نام میں نے نہیں لیئے جو تیرے فرشتوں، نبیوں اور رسولوں اور فرمانبرداروں میں سے ہیں میری صلوuat ان تک اور ان کی
 فِيْكَ وَأَخْوَانِي عَلَى دُعَائِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَيْكَ وَبِكَرِمَكَ إِلَى كَرَمِكَ وَ
 روحوں تک پہنچا دے اور اپنی درگاہ میں انبیاء میرے بھائی اور دعا میں میرے مد گار بنا دے اے معبدو میں تیرے حضور
 بِحُودِكَ إِلَى جُودِكَ وَبِرَحْمَتِكَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَبِأَهْلِ طَاعَتِكَ إِلَيْكَ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ
 تیری شفاعت لایا اور تیرے کرم تک، تیری عطا کو اور تیری رحمت تک تیری رحمت کو اور تیرے فرمانبرداروں کو شفعت بنا رہا ہوں اور اے
 بِكُلِّ مَا سَأَلَكَ بِهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ مَسَالَةٍ شَرِيفَةٍ غَيْرِ مَرْدُودَةٍ وَبِمَا دَعَوْكَ بِهِ مِنْ دُغْوَةٍ مُجَابَةٍ
 پروڈگار میں تھے سے وہ سوال کرتا ہوں جو ان میں سے کسی نے بہترین سوال کیا جسے دنیبیں کیا گیا اور جو دعا انہوں نے مانگی جسے قبول کیا گیا رونبیں کیا گیا
 غَيْرِ مُخَيَّبَةٍ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا حَلِيلُ يَا كَرِيمُ يَا عَظِيمُ يَا جَلِيلُ يَا مُنْيَلُ يَا جَمِيلُ يَا
 وہی دعا کرتا ہوں اے اللہ، اے رحمٰن، اے مہربان، اے بربار، اے کرم کرنے والے، اے بڑائی والے، اے جلالت والے، اے بخششے والے، اے زیبا
 كَفِيلُ يَا وَكِيلُ يَا مُقْيِلُ يَا مُجِيرُ يَا خَبِيرُ يَا مُنْيِرُ يَا مُبِيرُ يَا مَبِيعُ يَا مُدِيلُ يَا مُحِيلُ يَا كَبِيرُ يَا
 اے سرپرست، اے کارساز، اے معاف کرنے والے، اے پناہ دینے والے، اے خبردار، اے تابنده، اے نابوکرنے والے، اے محفوظ، اے پھیرنے والے، اے حرکت
 قَدِيرُ يَا بَصِيرُ يَا شَكُورُ يَا بَرُ يَا طُهْرُ يَا طَاهِرُ يَا ظَاهِرُ يَا باطِنُ يَا سَاتِرُ يَا مُحِيطُ يَا
 دینے والے، اے بزرگ، اے قدرت والے، اے بینا، اے قدر دال، اے یکدا، اے پاک، اے پاکیزہ، اے غالب، اے عیال، اے پیال، اے پردہ پوش، اے گھیرنے
 مُقْتَدِرُ يَا حَفِظُ يَا مُتَجَبُرُ يَا قَرِيبُ يَا وَدُودُ يَا حَمِيدُ يَا مَجِيدُ يَا مُبِدِيُ يَا مُعِيدُ
 والے، اے اقتدار والے، اے نگہبان، اے جوڑنے والے، اے نزدیک تر، اے دوستی والے، اے پسندیدہ، اے بزرگوار، اے آغاز کرنے والے، اے پلٹانے والے،
 يَا شَهِيدُ يَا مُحْسِنُ يَا مُجْمِلُ يَا مُنْعِمُ يَا مُفْضِلُ يَا قَابِضُ يَا بَاسِطُ يَا هَادِي يَا مُرْسِلُ يَا مُرْشِدُ
 اے گواہ، اے احسان کرنیوالے، اے نیکی کرنیوالے، اے نعمت دینیوالے، اے عطا کرنیوالے، اے پکڑنیوالے، اے دینیوالے، اے ہدایت دینیوالے اے بھجنے والے اے
 يَا مُسَدِّدُ يَا مُعْطِي يَا مَانِعُ يَا دَافِعُ يَا رَافِعُ يَا باقِي يَا خَلَاقُ يَا وَهَابُ يَا تَوَابُ يَا فَتَّاحُ
 نیک بنا نیوالے اے حکم کرنیوالے اے عطا کرنیوالے اے روکنے والے اے بہنانے والے اے بلند کرنیوالے اے بقا والے، اے نگہدار، اے پیدا کرنیوالے، اے بخششے

یا نَفَّاحٍ یا مُرْتَاحٍ یا مِنْ بَيْدِهِ كُلُّ مِفْتَاحٍ یا نَفَّاعٍ یا رَوْفٍ یا عَطُوفٍ یا كَافِی یا شَافِی
 والے اے تو قبیل کرنیوالے کھولنے والے اے ہو چینے والے اے راحت دینے والے اے وہ جس کے ہاتھ میں برکید ہے اے نفع دینے والے اے مہربان اے
 یا مُعَاافِی یا مُكَاافِی یا وَفِی یا مُهَیِّمِنْ یا عَزِیْزٌ یا جَبَارٌ یا مُتَكَبِّرٌ یا سَلَامٌ یا مُؤْمِنٌ یا أَحَدٌ
 نرم والے اے کفایت والے اے شفا والے اے عافیت والے اے کفایت کرنے والے اے دقا والے اے تہباں اے زبردستے غلبے والے اے برائی والے اے
 یا صَمَدٌ یا نُورٌ یا مُدَبْرٌ یا فَرْدٌ یا وِتْرٌ یا قُدُوسٌ یا نَاصِرٌ یا مُؤْنَسٌ یا باعث یا وارث یا
 سلامتی والے اے امن دینے والے اے کیتا اے بے نیاز اے روشن اے کام پورا کرنے والے اے یگانہ اے تہباں پا کیزہ ترے مدگار اے انس والے اے اٹھانے
 عالِمٌ یا حاکِمٌ یا بادِی یا مُتَعَالِی یا مُصَوَّرٌ یا مُسَلَّمٌ یا مُتَحَبِّبٌ یا قَائِمٌ یا دَائِمٌ یا عَلِیْمٌ یا حَکِيمٌ
 والے اے ورشہ دارے دانا اے حکم والے اے آغاز کرنے والے اے برتری والے اے صورتگار سلامتی دینے والے اے دوستی کرنے والے اے قائم اے ہیچکی والے اے
 یا حَوَادُّ یا بَارِیٰ یا بَارُیٰ یا سَارُ یا عَدْلٌ یا فَاصِلٌ یا دِیَانٌ یا حَنَانٌ یا مَنَانٌ یا سَمِيعٌ یا بَدِيعٌ
 علم والے اے حکمت والے اے عطا والے اے پیدا کرنے والے اے نخشی دینے والے اے عدل والے اے فیصلہ کرنیوالے اے جزا دینیوالے اے محبت کرنیوالے
 یا خَفِيرُیَا مُعِینٌ یا نَاشِرُیَا غَافِرُیَا قَدِیْمٌ یا مُسَهَّلٌ یا مُسَيْرٌ یا مُمِیْتٌ یا مُحْیِیٰ یا نَافِعٌ
 اے احسان کرنے والے اے سنن والے اے نقش سازے پناہ دینے والے اے مدگار اے دوبارہ زندہ کرنیوالے اے بخشنے والے اے سب سے پہلے اے آسان کرنیوالے اے ہمار
 یا رازِقٌ یا مُقْتَدِرٌ یا مُسَبِّبٌ یا مُغَيْثٌ یا مُغْنِیٰ یا مُغْنِیٰ یا خَالِقٌ یا رَاصِدٌ یا وَاحَدٌ یا حَاضِرٌ
 کرنیوالے اے مارنے والے اے زندہ کرنیوالے اے نفع دینے والے اے رزق دینے والے اے اختیار والے اے سب پیدا کرنیوالے اے فرید اے ثروت دینے والے اے
 یا جَابِرٌ یا حَافِظٌ یا شَدِیدٌ یا غِيَاثٌ یا عَائِدٌ یا قَابِضٌ یا مَنْ عَلَا فَاسْتَعْلَى فَكَانَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَى،
 گنبدار اے خلق کرنیوالے اے تہباں اے یگانہ اے موجودہ جوڑنے والے اے حفاظت کرنے والے اے بخت گیر اے دادرس اے لوٹاںے والے اے گرفت والے اے جو بلند ہو کر
 یا مَنْ قَرْبَ فَدَنَا، وَبَعْدَ فَنَّاَ، وَعِلْمَ السَّرَّ وَأَخْفَى یا مَنْ إِلَيْهِ التَّدْبِيرُ وَلَهُ الْمَقَادِيرُ، وَيَا مَنْ
 غائب ہو تو بہت ہی اوپنے مقام پر تھا اے وہ جو قریب ہے تو پہلو میں ہے اور دور ہے تو یکجیہ میں نہیں اور جیپنی کھلی ہر چیز کو جانتا ہے اے وہ جو صاحب تدبیر اور وہی انداز کرنے والا ہے
 الْعَسِيرُ عَلَيْهِ سَهْلٌ يَسِيرٌ، یا مَنْ هُوَ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ یا مُرْسِلَ الرِّيَاحِ، یا فَالِقُ الْأَصْبَاحِ،
 اے وہ جس کیلئے مشکل کام معمولی اور آسان ہے اے وہ جو کچھ بھی چاہے اس پر قادر ہے اے ہواں کے چلانے والے اے منج کی روشنی پھیلانے والے
 یا باعثُ الْأَرْوَاحِ یا ذَا الْجُودِ وَالسَّمَاحِ، یا رَادَ مَا قَدْ فَاتَ، یا نَاشِرَ الْأَمْوَاتِ، یا جَامِعَ الشَّتَّاتِ،
 اے ردوں کو چینیتے والے اے عطا و محتاجات کے مالک، اے گمشدہ چیز کے پلانے والے اے مردوں کے زندہ کرنے والے اے بکھری چیزوں کے جمع کرنے والے
 یا رازِقَ مَنْ يَشَاءُ بَغِيْرِ حِسَابٍ، وَيَا فَاعِلَ مَا يَشَاءُ كَيْفَ يَشَاءُ، وَيَا ذَا الْجَلالِ وَالْأَكْرَامِ، یا
 اے جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دینے والے اے جو چاہے جیسے چاہے کرنے والے اے اور اے جلالت

حَسْنٌ يَا قَيُومُ، يَا حَيَا حِينَ لَا حَيٍّ، يَا حَسْنٌ يَا مُحْسِنَ الْمَوْتَىٰ، يَا حَسْنٌ لَا إِلَهٌ إِلَّا أَنْتَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَبِرْكَىٰ وَالْأَرْضِ يَا إِلَهِي وَسَيِّدِي صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحُمْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے اے معبود اور میرے سردار محمد و آل علی مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ، کما صَلَّیتْ وَبَارَکْتَ وَرَحْمَتْ عَلَیٰ إِبْرَاهِیْمَ وَآلِ إِبْرَاهِیْمَ إِنَّكَ محمد پر درود بھیج مُحَمَّد وَآلَ مُحَمَّد پر برکت نازل کر جیسے تو نے ابراهیم اور آل ابراهیم پر درود بھیجا حَمِیدٌ مَجِيدٌ وَارْحُمْ ذُلْلَىٰ وَفَاقِتَىٰ وَفَقْرَىٰ وَانْفِرَادِىٰ وَوَحْدَتِىٰ وَخُضُوعِىٰ بَيْنَ يَدِيْكَ، وَ برکت نازل کی اور رحمت فرمائی بے شک تو تعریف والا شان والا ہے اور میری ذلت، فقر و فاقہ میری بے کسی، میری تہائی پر رحم کراور تیرے سامنے میں جو اعتمادی علیکَ، وَتَضَرُّعِيْ إِلَيْكَ، أَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَاطِعِ الدَّلِيلِ الْخَاشِعِ الْخَافِيِّ الْمُشْفِقِ عاجزی کرتا ہوں اور رحم کر کے میں تجوہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور تیرے حضور زاری کرتا ہوں تیری درگاہ میں دعا کرتا ہوں اس شخص کی سی دعا جو عاجز، پست، یعنی، الْبَائِسِ الْمَهِينِ الْحَقِيرِ الْجَائِعِ الْفَقِيرِ الْعَائِدِ الْمُسْتَجِيرِ الْمُقْرِ بَذَنْبِهِ، الْمُسْتَغْفِرِ مِنْهُ، الْمُسْتَكِينِ ڈراہوا، سہا ہوا، بے چارہ، کم ترین، ناچیز، بھوکا، محتاج، پناہ خواہ، طالب پناہ، اپنے لگناہ کا اقرار کرنے والا، گناہ کی معافی مانگنے والا اور اپنے رب کے حضور لِرَبِّهِ، دُعَاءَ مَنْ أَسْلَمَتْهُ تِقْتَهُ وَرَفَضَتْهُ أَحِبَّتْهُ، وَعَظُمَتْ فَجِيْعَتْهُ، دُعَاءَ حَرَقِ حَزِينِ ضَعِيفِ مَهِينِ بے بس ہے ایسے شخص کی سی دعا جسے اعتباریوں نے چھوڑ دیا و دوستوں نے دور ہٹا دیا اور اس کی مصیبت بھاری ہے میں دعا کرتا ہوں جیسے کوئی دل بائِسِ مُسْتَكِينِ بَكَ مُسْتَجِيرِ . اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ مَلِيكُ وَأَنَّكَ مَا تَشَاءُ مِنْ أَمْرٍ جلا، دکھنی، کمزور، پست، بے چارہ، ذلیل اور تجوہ سے طالب پناہ دعا کرتا ہے اے معبود! میں تجوہ سے سوال کرتا ہوں اس لئے کہ تو ماں کے ہے تو جو چاہے وہ یَكُونُ وَأَنَّكَ عَلَىٰ مَا تَشَاءُ قَدِيرٌ. وَأَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ هَذَا الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَالْبُيْتِ الْحَرَامِ، ہو جاتا ہے اور تو جو چاہے اس پر قادر ہے میں سوال کرتا ہوں تجوہ سے اس محظم میہنے اور پاک گھر، کعبہ مقدس، شہر کم، رکن و مقام اور عظمت والے مشروں وَالْبَلَدِ الْحَرَامِ، وَالرُّكْنِ وَالْمَقْامِ، وَالْمَسَاعِرِ الْعِظَامِ، وَبِحَقِّ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ کی حرمت کے واسطے سے اور تیرے نبی محمد (ان پر اور ان کی آش پر سلام) کے واسطے سے سوال ہوں اے وہ جس نے آدم کو شیش کے بعد ایوب آسَلَامُ . يَا مَنْ وَهَبَ لَآدَمَ شَيْشًا وَلَا بُرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، وَيَا مَنْ رَدَّ يُوسُفَ عَلَىٰ کی سختی دور کی اے موتی کوان کی ماں کے پاس لانے والے حضر کے بعد ایوب کی سختی دور کی اے موتی کوان کی ماں کے پاس لانے والے حضر کے یَعْقُوبَ، وَيَا مَنْ كَشَفَ بَعْدَ الْبَلَاءِ ضُرًّا يُوْبَ، يَا رَادَّ مُوسَى عَلَىٰ أُمِّهِ، وَزَایدَ الْخَضْرِ فی وہ جس نے یوسف کو یعقوب کی طرف لوٹایا اے وہ جس نے آزمائش کے بعد ایوب کی سختی دور کی اے موتی کوان کی ماں کے پاس لانے والے حضر کے

عَلِمْهِ، وَيَا مَنْ وَهَبَ لِدَوْدَ سُلَيْمَانَ وَلِزَكْرِيَا يَحْيَى، وَلِمَرْيَمَ عِيسَى، يَا حَافِظَ بُنْتِ شُعَيْبٍ، علم میں اضافہ کرنے والے اے وہ جس نے داؤد کو سلیمان، زکریا کو تھیں اور مریم کو عیسیٰ مطہ کیئے اے دختر شعیب کی حفاظت کرنے والے اے وَيَا كَافِلَ وَلَدِ أُمٌّ مُوسَى أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي
مار موتی کے فرزند کے محافظ میں سوال کرتا ہوں کہ تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرماء اور یہ کہ میرے کُلَّهَا، وَتُجِيرَنِي مِنْ عَذَابِكَ، وَتُوجِبَ لِي رِضْوَانَكَ وَأَمَانَكَ وَإِحْسَانَكَ وَغُفْرَانَكَ وَ سارے گناہ بخش دے مجھے اپنے عذاب سے پناہ دے اور میرے لئے اپنی رضا مندی، اپنی پناہ، اپنا احسان، اپنی بخشش جِنَانَكَ. وَأَسْأَلُكَ أَنْ تُفْكَ عَنِي كُلَّ حَلْقَةٍ بَيْنِي وَبَيْنَ مَنْ يُؤْذِينِي، وَتَفَتَّحَ لِي كُلَّ بَابٍ، اور اپنی بہشت واجب کر دے اور میں سوال کرتا ہوں کہ میرے اور مجھے ایز ادینے والے کے درمیان جتنی کثیاں ہیں وہ کھول دے وَتُلِيْنَ لِي كُلَّ صَعْبٍ، وَتُسَهَّلَ لِي كُلَّ عَسِيرٍ، وَتُخْرِسَ عَنِي كُلَّ نَاطِقٍ بَشَرٌ، وَتَكْفَ عَنِي ہر دروازہ میرے لئے کھول دے ہر سختی کو زمی میں بدل دے ہر مشکل کو آسان کر دے میرے خلاف ہر بدگوئی کرنے والے کُلَّ بَاغٍ، وَتَكْبِتَ عَنِي كُلَّ عَدُوٍّ لِي وَحَاسِدٍ، وَتَمْنَعَ مِنِي كُلَّ ظَالِمٍ، وَتَكْفِيَنِي كُلَّ عَاقِقٍ کو گونگا کر دے ہر سرکش کو مجھ سے دور کر دے اور میرے ہر دشمن و حاسد کو ذیل کر دے ہر ظالم کو یَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ حَاجَتِي وَيُحَاوِلُ أَنْ يُفْرِقَ بَيْنِي وَبَيْنَ طَاعِتِكَ وَيُبَطِّنِي عَنْ عِبَادَتِكَ۔
مجھ سے روکے رکھ ہر اس مانع سے میری کفایت فرما جو میرے جو میری حاجت کے درمیان حائل ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے تیری یَا مَنْ أَلْجَمَ الْجِنَّ الْمُتَمَرِّدِينَ، وَقَهَرَ عُتَّاَ الشَّيَاطِينَ وَأَذَلَّ رِقَابَ الْمُتَجَبِّرِينَ وَرَدَ كَيْدَ فرمانبرداری سے باز رکھے اور تیری عبادت سے دور کرے اے وہ جس نے سرکش جنات کو لکام دی اور نافرمان شیطانوں کی سرکوبی کی اور ظالموں کی گردیں الْمُتَسَلِّطِينَ عَنِ الْمُسْتَضْعِفِينَ أَسْأَلُكَ بِقُدرَتِكَ عَلَى مَا تَشَاءُ، وَتَسْهِيلَكَ لِمَا تَشَاءُ جھکا دیں اور کمزور لوگوں کو ظالموں کے پنجے سے آزادی بخشی میں سوال کرتا ہوں بواسطہ اس کے کہ تو جو چاہے اس پر قادر ہے اور جو چاہے کیف تشاء اَنْ تَجْعَلَ قَضَاءَ حَاجَتِي فِيمَا تَشَاءُ۔

جیسے چاہے تیرے لئے آسان ہے کہ تو میری حاجت روائی، جس پیڑیں چاہے قرار دے۔

اسکے ساتھ ہی زمین پر سجدہ کرے اور اپنے دونوں رخسار خاک پر رکھ کر یہ کہے:

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، فَارْحُمْ ذُلِّي وَفَاقْتَنِي وَاجْتَهَادِي وَتَضَرُّعِي وَمَسْكَنَتِي
اے معبدو! میں تھجی کو سجدہ کرتا ہوں اور تھجی پر ایمان رکھتا ہوں پس میری ذلت، احتیاج اور میری کوشش، میری زاری و بے چارگی اور اپنی بارگاہ میں وَفَقْرِي إِلَيْكَ يَارَبٌ۔

میری محتاجی پر تم فرمائے پروردگار۔